



پرائگریو ایجوکیشن نیٹ ورک

پرچہ اردو، جماعت دوم، پہلی سہ ماہی 2022

حاصل کردہ نمبر														
سوال نمبر	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	کل نمبر	50

نام: _____ تاریخ: _____

وقت: 1:15 استاد: _____ اسکول: _____

سوال 2- دیے گئے جملوں میں سے اسم اور فعل الگ کر کے لکھیں۔ 5

جملے	اسم	فعل
اُستانی جی پڑھاتی ہیں۔		
لڑکے کھیل رہے ہیں۔		
بچے دوڑ رہے ہیں۔		
خاکروب کام کر رہا ہے۔		
احمد کھڑا ہے۔		

سوال 1- دیے گئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پُر کریں۔ 5

دُرود	جاں	رستہ	چڑیا	رت
۱- ہمیں اپنی _____ سے ہیں پیارے نبیؐ				
۲- ہدایت کا _____ دکھایا انھوں نے				
۳- ہمارے لیے لائے _____ کی کتاب				
۴- ہزاروں _____ اُن پہ، لاکھوں سلام				
۵- شیشم کے پیڑ پر _____ کا گھونسل تھا۔				

سوال 4- الفاظ کے متضاد لکھیں۔ 5

اچھا	
رات	
دُور	
مشکل	
اوپر	

سوال 3- درست اور غلط جواب کی نشان دہی دائرہ لگا کر کریں۔ 5

چڑیا کا گھونسل شیشم کے درخت پر تھا۔	درست	غلط
چڑیا اور چوہا مکئی کے دانے پر لڑنے لگے۔	درست	غلط
چڑیا اور چوہے نے بکری کی نصیحت نہ سنی۔	درست	غلط
چیل روٹی کا ٹکڑا لے اُڑی۔	درست	غلط
چڑیا اور چوہا بہت بچھتائے۔	درست	غلط

سوال 6- کلمہ کے ساتھ مہمل لگا کر جملہ مکمل کریں۔ 5

- ۱- اس وقت بارش _____ ہو رہی ہے۔
- ۲- کوڑا _____ گلی میں نہ پھینکو۔
- ۳- پہلے روٹی _____ کھا لو۔
- ۴- سب نے گانا _____ سنا۔
- ۵- یہ جھوٹ _____ کی کہانی ہے۔

سوال 5- الفاظ کو اُن کے معنی سے ملائیں۔ 5

دل لگا کر	سلامتی
خیر	عزت
بھٹ	شوق سے
اُصول	فوراً
احترام	قاعدہ

سوال 7- دیے گئے سوالوں کے جواب لکھیں۔

8

۱۔ بانو کا طوطا کب سلام کرتا تھا؟
(ج)
۲۔ تارے کیوں تھک جاتے ہیں؟
(ج)
۳۔ خاکروب کا کیا کام ہوتا ہے؟
(ج)
۴۔ کس ہستی کو دلوں کا سہارا کہا گیا ہے؟
(ج)

سوال 8- دیے گئے الفاظ کے جملے لکھیں۔

2

مہربان _____
شوق _____

5

سوال 9- محترم استاد / استانی بچوں سے سبق "چڑیا اور چوہا" میں سے پانچ الفاظ کی اِملاء کروائیں۔

_____ 1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____ 5

(حصہ پڑھائی)

5

سوال 10- محترم استاد / استانی بچوں سے درج ذیل پیرا گراف کی پڑھائی کا امتحان لیں۔

ہم گاؤں میں رہتے ہیں۔ گاؤں میں زیادہ تر مکان کچے ہیں۔ گلیاں بھی کچی ہیں۔ گاؤں کے لوگ بہت محنت کرتے ہیں۔ وہ اناج، سبزیاں اور پھل اگاتے ہیں۔ لوگوں نے مویشی بھی پال رکھے ہیں۔ یہ مویشی دودھ دیتے ہیں۔ دودھ سے لسی، مکھن اور گھی بنتا ہے۔ لوگ تازہ دودھ، مکھن، پھل اور سبزیاں کھاتے ہیں۔ اس لیے وہ صحت مند رہتے ہیں۔